



## سوال

(620) امام کا رکوع میں انتظار کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب امام حالت رکوع میں ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ کچھ نمازی جلدی سے آ رہے ہیں تاکہ رکوع میں مل جائیں تو کیا امام کے لئے ان کا انتظار کرنا جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس حالت میں امام کے لئے افضل یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے میں جلدی نہ کرے تاکہ جو لوگ رکعت پالینے کے شوق میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو جائیں لیکن امام کو اس قدر تاخیر بھی نہیں کرنی چاہئے جس سے امام کے ساتھ شریک مقتدیوں کو تکلیف ہو اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرے انتظار کر لینا مستحب ہے۔ (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

حدیث ما عنہ فی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 501

محدث فتویٰ